

برائے فوری اجراء

اپنی قیمتی رائے دیں اور برامپٹن کو گرین سٹی بنانے میں مدد فراہم کریں۔

اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان اور پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹجی سروے اب آن لائن طور پر دستیاب ہیں۔

برامپٹن، آن (14 مارچ 2022) – سٹی آف برامپٹن نے کمیونٹی کے درختوں اور پارکوں میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ایک اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان سروے اور پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹجی سروے کا آغاز کیا ہے۔

اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان سروے

سٹی کے پہلے اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان (UFMP) کے مسودے کا خلاصہ کمیونٹی کی جانب سے رائے حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔

برامپٹن کے شہری جنگلات میں شہر کی حدود میں واقع سرکاری اور نجی دونوں طرح کی زمینوں پر موجود تمام درخت اور ان کے بڑھتے ہوئے قدرتی ماحول شامل ہیں۔ UFMP موجودہ درختوں کی حفاظت اور درختوں کی تعداد میں اضافہ کر کے برامپٹن کے شہری جنگلات کو برقرار رکھنے اور انہیں وسعت دینے کے لیے حکمت عملی کی سمت فراہم کرے گا۔

اس مسودے کے خلاصے میں، سٹی نے ایسا کرنے کے لیے 36 ایسے اقدامات کی نشاندہی کی ہے، جو ہماری تحقیق، تجزیہ اور اب تک کے تجربات کی بنیاد پر تجویز کیے گئے ہیں۔

UFMP برامپٹن کے 'گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پلان' کا ایک حصہ ہے۔ UFMP برامپٹن 2040 ویژن اور کمیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پلان (CEERP) کے اہداف کو بھی عملی جامہ پہناتا ہے جس میں 2040 تک برامپٹن میں 10 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔

رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ 11 مارچ 2022 سے 1 اپریل 2022 تک مسودے کے خلاصے پر اپنے خیالات کا آن لائن اشتراک کریں۔ سروے مکمل کرنے کے لیے www.brampton.ca/trees ملاحظہ کریں۔

پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹجی سروے

سٹی اپنے بہت سے پارکوں اور قدرتی ورثے کی حامل جگہوں میں بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ سٹی کی نئی پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹجی کا مقصد برامپٹن کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی میں مزید سبز جگہوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی نئے پارک لینڈ ڈیڈیکیشن بائی لاء کی معاونت کرنے اور پارکس اینڈ ریکرینیشن ماسٹر پلان، 2017 کی سفارشات کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرے گی۔

حکمت عملی کے لیے ابتدائی مطالعہ کمیونٹی کی رائے حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز کو 11 مارچ 2022 سے 1 اپریل 2022 تک منعقد ہونے والے آن لائن مطالعہ کے دوران اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ سروے مکمل کنے اور مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک گرین سٹی ہے، جس میں بہت سے پارکس اور قدرتی ورثے کی حامل زمینیں موجود ہیں، جن سے ہم سب سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹیجی اور اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان کی تیاری کے تمام مراحل کے دوران، سٹی عوام اور اسٹیک ہولڈرز کی مشغولیت کو یقینی بنانے کا عمل جاری رکھے گا۔ میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ یہ سروے مکمل کریں اور ہمارے پارکوں اور درختوں کو پھلانے پھولنے میں مدد دیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اگر آپ برامپٹن کے بیرونی مقامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹیجی اور اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو گا۔ برامپٹن ایک بڑھتا ہوا شہر ہے اور ہمیں آپ کی قیمتی رائے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پارکوں اور درختوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ آج ہی ان مختصر سروے کو مکمل کریں!"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"پارکس، قدرتی ورثے کی زمینیں اور درخت ہماری کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چونکہ ہم برامپٹن کے پارکوں اور درختوں کے لیے ان اہم اقدامات میں پیش رفت کر رہے ہیں، تو آپ سے پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹیجی اور اربن فاریسٹ مینجمنٹ پلان پر رائے دینے کی گزارش کی جاتی ہے۔"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca